

برائے فوری اجراء

نئی ویب سائٹ **InvestBrampton.ca** مقامی کاروباروں، انٹرپرائیونرز اور بیرونی سرمایہ کاروں کو ٹولز اور وسائل فراہم کرتی ہے

برامپٹن، آن (3 جون 2020) – آج سٹی نے ایک نئی ویب سائٹ InvestBrampton.ca کا آغاز کیا ہے، جو مقامی کاروباروں، انٹرپرائیونرز اور ممکنہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے اس معلومات اور وسائل تک رسائی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، جو انہیں برامپٹن میں اپنے کاروبار کو شروع کرنے یا انہیں فروغ دینے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ نئی InvestBrampton.ca کو [سٹی کی اکنامک ریکوری اسٹریٹجی](http://InvestBrampton.ca) میں ایک فوری قدم کے طور پر نمایاں کیا گیا تھا۔

تعمالیت پر توجہ کے ساتھ، یہ ویب سائٹ جگہ منتخب کرنے والوں، ممکنہ سرمایہ کاروں اور مقامی کاروباروں کے لیے فوراً اور آسانی سے معلومات تلاش کرنے اور ماہر مشیروں کے ساتھ رابطہ کرنے کو آسان بناتی ہے۔ نئی خصوصیات میں شامل ہیں: وسائل کا ایک مرکزی صفحہ، جگہ کے انتخاب کا ایک ٹول اور سرمایہ کاری کی خدمات کی ایک نئی ٹیم تک براہ راست رسائی، جو ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے انفرادی ضروریات کے مطابق خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس سائٹ میں چیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔

مؤرخہ 13 مئی کو برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹی کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر ایک اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کو منظور کیا تھا۔ میٹرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس نے سٹی کی اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کی تیاری میں رہنمائی فراہم کی ہے، جسے درج ذیل چار ستونوں کے تحت اقدامات کا نفاذ کر کے حاصل کیا جائے گا: **جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرائیونرشپ، سرمایہ کار، انفراسٹرکچر اور فنون، ثقافت اور سیاحت۔**

برامپٹن کی معاشی بحالی میں معاونت کے لیے شروع کیے جانے والے دیگر اقدامات میں سٹی کی [سپورٹ لوکل مہم](http://InvestBrampton.ca) اور [ڈیجیٹل شاپ بینر پروگرام](http://InvestBrampton.ca) شامل ہیں۔

برامپٹن تقریباً 74,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ 2019 میں، برامپٹن انٹرپرائیونر سنٹر نے تقریباً 1,000 چھوٹے کاروباروں کو مشاورت فراہم کی اور چھوٹے کاروباروں کے 10,000 سے زائد کاروباری استفسارات کے جوابات دیے۔

اقتباسات

"چونکہ ہم برامپٹن کی معاشی بحالی پر کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے موجودہ کاروباروں کو برقرار رکھنا اور توسیع دینا اور اپنے شہر میں نئی سرمایہ کاری لانا ہماری توجہ کا کلیدی مرکز ہو گا۔ یہ نئی ویب سائٹ ان کئی طریقوں میں سے ایک ہے جو ہم اپنے موجودہ کاروباروں کی مدد کرنے اور ان کئی فوائد کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جو برامپٹن کو سرمایہ کاری کی ایک مثالی جگہ بناتے ہیں!"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمیں کووڈ-19 سے معاشی بحالی کی جانب بڑھتے ہوئے، ممکنہ سرمایہ کاروں، خصوصاً بیرونی سرمایہ کاروں، سے جڑنے کے نئے طریقے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کاروبار کرنے اور کاروبار کے لیے کشش پیدا کرنے کے نئے طریقے کے طور پر اپنے طرز عمل کو بیرونی براہ راست سرمایہ کاری کے مقاصد پر بڑے پیمانے پر تبدیل کرنا ہو گا۔ ہماری بالمشافہ گفتگو اور تعلقات پیدا کرنے کی کوششوں کے علاوہ، investbrampton.ca ہمارے ممکنہ سرمایہ کاروں کو اپنی ضرورت کی زیادہ تر ابتدائی معلومات آسانی سے ایک جگہ سے حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔"

– پال ویسیٹی، وارڈز 1 اور 5، چیئر، میٹرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

"اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس کووڈ-19 کے دوران مقامی کاروباروں کے ساتھ انتہائی انہماک کے ساتھ کام کرتی رہی ہے اور اس معاونت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ ہماری مقامی معیشت بحال ہو سکے اور اس سب سے طاقتور ہو کر نکل سکے۔ ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی آگے بڑھتے ہوئے ہمارے شہر کی ثابت قدمی اور مسابقتی فائدے کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔"

– مائیکل پیلیسچی، وارنٹر 2 اور 6، چیئر، میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

"پورے ملک کے کاروباروں اور تنظیموں کی طرح، ہمارے شہر کو کووڈ-19 کے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے معاشی بحالی ہمارے لیے کلیدی توجہ کا محور ہے اور ہم کئی ایسے مختلف اقدامات کو دیکھیں گے، جو ایک ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca